



THE  
SENATE OF PAKISTAN  
DEBATES  
OFFICIAL REPORT  
Monday, September 20, 2010  
(64<sup>th</sup> Session)  
Volume VIII No. 01  
(Nos. 01- 10 )

CONTENTS

	Pages
1. Recitation from the Holy Quran .....	1
2. Panel of Presiding Officers.....	2
3. Oath.....	2
4. Condolence Resolution on the sad demise of Senator/ Minister Abdul Razak A. Thahim .....	2-12
5. Fateha .....	13
6. Resolution on the brutalities in Indian held Kashmir .....	13-14

*Printed and Published by the Senate Secretariat, Islamabad.*

Volume VIII  
No.01

SP. VIII ( 01 )/2010  
130

SENATE OF PAKISTAN  
SENATE DEBATES

Monday, September 20, 2010

The Senate of Pakistan met in the Senate Hall (Parliament House) Islamabad, at thirty six minutes past five in the evening with Mr. Chairman (Mr. Farooq Hamid Naek) in the Chair.

-----  
Recitation from the Holy Quran

اعوذُ باللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا □ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔

ترجمہ: اور سب مل کر اللہ کی ہدایت کی رسی مضبوط پکڑے رہنا اور متفرق نہ ہونا۔ اور اللہ تعالیٰ کی اس مہربانی کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تم کو اس سے بچالیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سناتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے یہی لوگ ہیں جو نجات پانے والے ہیں۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو متفرق ہو

گئے اور احکام بین آنے کے بعد ایک دوسرے سے (غلاف و) اختلاف کرنے لگے  
یہ وہ لوگ ہیں جن کو (قیامت کے دن) بڑا عذاب ہوگا۔

سورۃ آل عمران (آیت 103 تا 105)

جناب چیئرمین: جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

### Panel of Presiding Officers

In pursuance of Rule 14 (1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate 1988, I nominate the following Members in order of precedence to form a Panel of Presiding Officers for the 64<sup>th</sup> Session of the Senate of Pakistan.

1. Senator Islamuddin Shaikh
2. Senator Ilyas Ahmad Bilour
3. Senator Javed Ali Shah

I now call upon Syed Sajid Hussain sahib to come here and make oath.

### Oath

جناب چیئرمین: جی نیر بخاری صاحب۔

سینیٹر سید نیر حسین بخاری (قائد ایوان): شکریہ جناب چیئرمین۔ جناب! گزارش یہ ہے کہ ہمارے سینیٹ کے honourable Member جناب سینیٹر عبدالرازق تقسیم صاحب کا انتقال ہو گیا ہے جو Federal Cabinet کے member بھی تھے، اس حوالے سے اس House کی جانب سے ایک joint condolence resolution ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔

جناب چیئرمین: جی ضرور پیش کریں۔

Condolence Resolution regarding the sad demise of

Senator/Minister Abdul Razaq A. Thahim

Senator Syed Nayyer Hussain Bokhari: This House expresses its profound grief and shock on the sad demise of

Senator Abdul Razak A. Thahim, Minister for Local Government and Rural Development on 1<sup>st</sup> September, 2010.

Senator late Abdul Razak A. Thahim was a seasoned Parliamentarian; he was elected from the Province of Sindh in year 2003, he was again elected in the year 2006 for another term of 6 years. He remained Judge of Sindh High Court and Federal Shariat Court, he was Vice-Chairman, Sindh, Balochistan Bar Council. He also remained Member of Majlis-e-Shoora and represented Pakistan in UN General Assembly for four times.

He made useful contribution to the discussion in the Senate. Services rendered by him would be long remembered.

We pray to Almighty Allah to shower His infinite blessings on the departed soul. May his soul rest in the eternal peace and may God give his family strength and fortitude to bear this irreparable loss.

Today's sitting of the Senate may be adjourned in the memory of late Abdul Razak A. Thahim without transacting any other business.

A copy of this Resolution may also be sent to the bereaved family.

جناب چیئرمین: جی وسیم سجاد صاحب۔ جی، پہلے فاتحہ پڑھ لیں؟ چلیں فاتحہ کر لیں۔  
سینیٹر وسیم سجاد (قائد حزب اختلاف): میرا خیال ہے کہ فاتحہ resolution کے بعد ہو  
تو بہتر ہوگا، پہلے Resolution ہو جائے پھر فاتحہ ہو جائے۔

جناب چیئرمین: پہلے Resolution پھر فاتحہ ہو، legalize کرنے کے لیے کوئی  
speeches بھی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ جی۔

Senator Wasim Sajjad: Mr. Chairman, I would like to join the honourable Leader of the House and on behalf of the Opposition express deepest grief and sorrow on the sad demise of

the Late Justice (R) Abdul Razak A. Thahim. Mr. Justice (R) Thahim was a person who had a personality with many aspects; he had a multifaceted personality; he had indulged in local politics, was an advocate, a criminal lawyer of a repute in his area, he became a Judge of the High Court, he was a Judge of the Federal Shariat Court, he was the Judge of the Services Tribunal, became a Senator, he became a Minister and even at this advance stage we found that he was always well prepared in the questions that he had to answer or in participation whenever a debate was taking place in the Senate. Regardless of whether one agreed with him or not he always had a point of view and we noticed this more particularly, recently when as a Member of the Constitutional Commission which recommended the 18<sup>th</sup> Amendment to the Constitution, he played a very pivotal and important role and his experience as a Judge, as a lawyer, at helm of worldly affairs his experiences came in very handy in this contribution that he made to the proceedings of the Constitutional Commission.

So, his loss is a great loss, it's a loss to the Senate; it's a loss to all those people who came into contact with him and secondly he has left a name and an imprint on the Senate of Pakistan. So, I would like to join the honourable Leader of the House in conveying my condolences to the family of the late Justice (R) Thahim. I pray, may his soul rest in peace and may his family have the strength to bear this loss. Thank you.

جناب چیئرمین: جی راجہ صاحب۔ راجہ صاحب کی باری ہے۔  
سینیٹر بابر خان عنوری (وزیر برائے پورٹس اینڈ شیپنگ): جناب! میں ایک بات  
کرنا چاہتا ہوں۔

جناب چیئرمین: جی فرمائیے۔

سینیٹر بابر خان غوری: جناب! میں یہ چاہ رہا تھا کہ جب تھیم صاحب کے لیے دعا کریں تو ڈاکٹر عمران فاروق جو دو دفعہ Member Parliament رہ چکے ہیں، ان کے لیے بھی دعائے مغفرت کی جائے۔

جناب چیئرمین: بالکل، ان کے لیے بھی دعا کی جائے گی۔  
 سینیٹر وسیم سجاد: تھیم صاحب اور ڈاکٹر عمران فاروق صاحب کے لیے بھی دعا کی جائے۔  
 جناب چیئرمین: جی راجہ صاحب۔

سینیٹر راجہ محمد ظفر الحق: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب چیئرمین! جناب جسٹس رزاق اے تھیم صاحب مرحوم کے ساتھ تقریباً پچاس سال سے زیادہ عرصہ تعلق رہا۔ جیسے Leader of the House and Leader of the Opposition نے کہا ہے کہ ان کی شخصیت کے بہت سے پہلو تھے، وہ ایک سچے پاکستانی، بہت اچھے مسلمان، ایک دیانندارج اور اتنی بااعتماد شخصیت تھے کہ کبھی بھی ان کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان جیسے حضرات کا پاکستان سے وصال ہو جانا ایک قومی نقصان ہے۔ جب وہ یہاں موجود تھے اور ان کے پاس لوکل گورنمنٹ کا عہدہ تھا تو اس سلسلے میں تقریباً ہر ایک ممبر کا ان سے سابقہ پڑتا تھا، وہ ہر ایک سے خوش اخلاقی اور محبت سے پیش آتے تھے۔ اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، میں دو دفعہ ان کی بیمار پرسی کے لیے ہسپتال گیا۔ بد قسمتی سے وہ پہلے دن سے ہی coma میں چلے گئے تھے۔ پہلے ان کی دیکھ بھال PIMS میں ہوتی رہی اور پھر ان کو شفاء میں داخل کروایا گیا لیکن زندگی کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ ہمیں ان کے وصال کا بہت افسوس ہے۔

زیدی صاحب جو ان کی جگہ رکن بنے ہیں، میرے خیال میں ان کو بھی اس بات کا احساس ہو گا کہ جس مرحوم ہستی کی جگہ وہ آج حلف لینے کے لیے آئے ہیں ان کے لیے مرحوم ایک مشعل راہ رہیں گے۔ میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتا ہوں۔

جناب چیئرمین: شکریہ۔ ایس۔ ایم۔ ظفر صاحب۔

Senator S. M. Zafar: Mr. Chairman, I shall like to say that we have lost a gentleman and instead of going into the same statement about his quality of head and heart, I shall like to quote from two of his books: One book is written about the Judges,

recalling his judgements and career in judiciary and this is the quotation worth being produced here before the House. He has said “Judges Case and Judiciary” and there is one quotation worth being produced before the House. He has said, “Independence of judiciary gives the citizen confidence and it is also a requirement of democracy. The Independence of judiciary safeguards the rights of everybody and preserves the democracy, the rule of law within four corners of the Constitution. The responsibility lies on the total society to maintain the independence of judiciary.”

I think it will be a tribute to him if we remember these words and we all work in that direction. One aspect of his life has not been mentioned that he was also a member of the Election Commission. As a member of the Election Commission in his memoirs, I happened to know him quite intimately and so we have been exchanging books also. In his memoirs he reproduced his interim report on elections and he says finally, I conclude my note with the following observation: Sir, I quote his observation, “The Election Commission is a permanent organ and has very important role to play in democracy, therefore, every Government should keep this institution above board which could only be done if from time to time permanent Chief Election Commissioners are appointed, who enjoy the Constitutional protection otherwise one human being is after all a human being.”

I would say sir, he must have been very gratified when through the 18<sup>th</sup> Amendment, his contribution in it, Election Commission has been given that strength and independence which he has been cherishing for. Again it will be a tribute to him if the Election Commission performs his duty as wished by him. Thank you very much sir.

Mr. Chairman: Thank you. Mr. Babar Ghauri.

سینیٹر بابر خان غوری: شکریہ جناب چیئرمین۔ جب ہم اس ہاؤس میں داخل ہوتے تھے تو ہمیشہ دیکھتے تھے کہ شاید ہی کوئی ایسا دن ہوتا ہوگا کہ وہ ہاؤس میں تشریف نہ لائے ہوں یا انہوں نے کسی کارروائی میں حصہ نہ لیا ہو۔ وہ ایک نیک اور شریف انسان تھے، ان کی ہمیشہ کوشش ہوتی تھی کہ ہم پارلیمنٹ کی آزادی کے لیے کوئی کام کریں، اس حوالے سے وہ discuss کرتے رہتے تھے اور آپ نے note کیا ہوگا کہ وہ ہر issue پر بولتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ایک اور عظیم سانحہ ہوا ہے۔ ڈاکٹر عمران فاروق جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں، ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں۔ تھیم صاحب کی جگہ ساجد صاحب آئے ہیں، ہمیں امید ہے کہ جو کام وہ نہیں کر سکے تھے وہ یہ پورا کریں گے۔

جناب چیئرمین: شکریہ۔ حاجی عدیل صاحب۔

سینیٹر حاجی محمد عدیل: محترم چیئرمین! میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا۔ میں آج جسٹس صاحب کو یہاں نہیں دیکھ رہا ہوں تو مجھے بہت دکھ ہوا ہے۔ میرا ان سے تعلق اس سینیٹ میں آنے کے بعد قائم ہوا جو تین سال سے تھا، وہ اکثر یہاں ان سینیٹوں پر میرے ساتھ ہی بیٹھا کرتے تھے۔ اٹھارہویں ترمیم پر کمیٹی کے اجلاسوں میں ان کے ساتھ ایک اور رشتہ پیدا ہوا۔ تھیم صاحب مکمل طور پر ایک شریف انسان تھے، ایسے انسانوں کی اس معاشرے میں بہت کمی ہے، وہ مجھ سے عمر میں زیادہ تھے لیکن ان کا دل جوان تھا، وہ محبت کرنے والے انسان تھے، وہ اپنے ساتھیوں سے پیار کرتے تھے۔ آج وہ نہیں ہیں تو مجھے دکھ ہوا ہے کہ میں ایک ایسے بزرگ کی کمی محسوس کر رہا ہوں کہ جو بزرگ بھی تھے، دوست بھی تھے، مہربان بھی تھے اور پیار کرنے والے بھی تھے۔ میں نے زندگی میں ایسے شریف النفس شخص بہت کم دیکھے جیسا کہ جسٹس صاحب تھے۔ اگر کسی معاملے میں اختلاف بھی ہوتا تھا تو وہ بڑے polite انداز میں اپنے اختلاف کا اظہار کرتے تھے، کبھی بھی انہوں نے یہ کوشش نہیں کی کہ وہ اپنے علم، تجربے اور جوان کی ماضی کی حیثیت رہی ہے اس کی وجہ سے اپنی بات میں کوئی دباؤ یا زور پیدا کریں۔ انہوں نے ہمیشہ جو بات بھی کی پیار سے کی اور ہم نے ان سے جو بات بھی چونکہ لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے واسطہ پڑتا رہتا تھا، انہوں نے پیار سے ہماری بات مانی۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت



الفردوس میں سب سے اونچا مقام دے، ان کے خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کے بچوں کو اور کوئی  
غم نہ دکھائے۔ آمین۔

اس کے ساتھ ساتھ MQM کے لیڈر ڈاکٹر عمران فاروق صاحب جو کہ لندن میں قتل کر دیئے  
گئے ہیں، ہمیں ان کی شہادت پر دکھ ہے۔ جناب چیئرمین! عوامی نیشنل پارٹی نے ہمیشہ عدم تشدد کی  
بات کی ہے، ہم تشدد سے نفرت کرتے ہیں، ہم ایک انسان کے قتل کو پورے عالم کا قتل سمجھتے ہیں۔  
خدا کرے کہ سیاست میں یہ آخری قتل ہو اور اس کے بعد کوئی سیاستدان، نہ قانونی طور پر، نہ judiciary  
کے حوالے سے اور نہ دہشت گردی کے نتیجے میں قتل کیا جائے۔  
جناب چیئرمین: شکریہ۔ جی اعظم سواتی صاحب۔

Senator Azam Khan Swati: Thank you Mr. Chairman.

Let me join with my colleagues in expressing the same word of  
sorrow and grief to the loss of great Justice and the Minister,  
Justice Thahim whose impact and the foot steps that he has left  
specially in this Parliament, specially in the Cabinet will always be  
remembered. I still remember, one day he came to me as an elder  
and offered me his two books and he signed those books. He was  
a great lover of Constitution of Pakistan, he was a great defender  
of Parliament and the democracy. The love and the affection that  
he left on my mind and heart will always be remembered and will  
be a part of my life. May God Almighty give him peace. Amen.

Let me also take this opportunity, Mr. Chairman, and say  
that the most despicable act was committed in London against a  
parliamentarian, against a political worker, Dr. Imran Farooq, I met  
him twice in the United States. I think this is a heinous crime that  
was committed. We all feel sorrow and condemn that cruel act of  
someone who basically wanted to kill a political worker, kill a  
person who had a great love for democracy. I hope and pray for  
his family, pray for him that may God Almighty give him peace  
hereinafter. Thank you very much.

جناب چیئرمین: شکریہ۔ پروفیسر خورشید صاحب۔

سینیٹر پروفیسر خورشید احمد: شکریہ جناب چیئرمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ جناب چیئرمین! اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ میں بھی دل کی گھمائیوں سے اپنے اور اس ایوان کے غم کا اظہار کرتا ہوں۔ بلاشبہ اللہ کا حکم ہر چیز پر حاوی ہے اور موت ہم سب کا تعاقب کر رہی ہے، کسی کو پتا نہیں کہ کب اس کا بلاوا آجائے لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ مجھے سات سال اس ایوان میں جسٹس صاحب کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا۔ جیسا کہ میرے ساتھیوں نے کہا، میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے ان کو ایک شریف انسان، وعدے کا پاس کرنے والا اور پاکستان کے لیے دکھ اور درد، دلی محبت رکھنے والا پایا۔ انہوں نے مجھے بھی بڑی محبت سے اپنی memoirs میں نے محسوس کیا کہ اس میں انہوں نے بڑی دیانت سے جو کچھ اس ملک میں Judiciary کے ساتھ ہوتا رہا، اس کا بھی ذکر کیا ہے جو چشم کشا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور جنت میں ان کو اعلیٰ درجات عطا فرمائے۔

ساتھ ہی میں ڈاکٹر عمران فاروق کی ہلاکت کی نہ صرف مذمت کرتا ہوں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک قومی loss ہے۔ اپنے ایم کیو ایم کے ساتھیوں کے غم میں ہم سب شریک ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور پاکستان اور امت مسلمہ کو ایسی تمام کارروائیوں اور ہلاکتوں سے محفوظ رکھے جس پر ہمارے دل افسردہ، سنبھلیں اٹکبار اور سرسرم سے شرمسار ہیں۔

جناب چیئرمین: شکریہ۔ جی ڈار صاحب۔

سینیٹر محمد اسحاق ڈار: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب چیئرمین۔ میں بھی اپنے تمام ساتھیوں کے جذبات کو join کرتے ہوئے، عرض کروں گا کہ ان کے ساتھ ہمارا جتنا بھی ساتھ رہا، سینیٹ کے اندر، سینیٹ سے باہر کمیٹیوں میں اور خصوصاً پچھلے ایک سال میں آئینی کمیٹی کے اندر، ہمارا آپس میں بھرپور interaction رہا۔ وہ انتہائی شریف النفس، ایک مدبر اور بڑی شخصیت تھے۔ وہ اپنی professional wisdom اور law کے تجربے کو پوری طرح بروئے کار لائے۔ انہوں نے بہت proactively کمیٹی میں اپنا کردار ادا کیا۔ اسی طرح implementation commission میں بھی جج صاحب نے اپنی ministry لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے بھرپور نمائندگی کی۔ میں بھی سب

ساتھیوں کے جذبات کو join کرتے ہوئے، ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جواری رحمت میں جگہ عطا کرے اور ان کے درجات بلند ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی family کو صبر جمیل عطا کرے۔

اسی طرح ایک former parliamentarian اور ایک political party کے leader ڈاکٹر عمران فاروق کا قتل، ایک بڑے عجیب انداز میں لندن جیسے شہر میں ہوا، اس کی ہم بھی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ سیاسی نقطہ نظر سب کا اپنا اپنا ہو سکتا ہے لیکن یہ ہماری اسلامی اور مشرقی روایات میں کہ ہم غم اور صدمے کو share کرتے ہیں۔ میں اپنی پارٹی کی طرف سے اور اپنی طرف سے ان کی قیادت سے افسوس اور تعزیت کرتا ہوں۔ ان کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جواری رحمت میں جگہ دے اور اللہ تعالیٰ ان کے قاتل، اس قاتل کے ساتھیوں اور planners کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ بہت شکریہ۔

جناب چیئرمین: بہت شکریہ۔ جمالی صاحب۔

Senator Jan Muhammad Khan Jamali: Thank you Mr. Chairman. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ The death of Senator Abdul Razzaq Thahim, we lost a thorough gentleman. He was a decent soul and a very prudent person. He lived 40 miles away from my place in Balochistan and we always interacted as a family. His vast experience taught us many a thing. I am thanking Allah that when he died six feet of water was flowing through his village, there was hardly any ground to bury him. So, he was buried a couple of miles away from his ancestral graveyard, this was the state.

Secondly, Mr. Chairman, the murder of Mr. Imran Farooq in London leaves many eyebrows raised.

اردو میں، میں کہتا ہوں کہ اس قتل کی تہہ تک پہنچنا چاہیے۔ ہم توقع کرتے ہیں سکاٹ لینڈ جیسے نامی گرامی ادارے سے کہ وہ تہہ تک پہنچیں گے اور یہ جو قتل ہے ایک سیاسی ورکر کا، وہ اپنی پارٹی کے سیاسی لیڈر تھے اور اس کے ساتھ ایک انسان، اس کی تہہ تک پہنچا جائے گا اور اصلی مجرم گرفتار ہوں گے۔ بہت شکریہ۔

جناب چیئرمین: رازق خان صاحب۔

سینیٹر عبدالرازق: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب چیئرمین! شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن ہم ایک ایسے دوست اور بزرگ کے بغیر جمع ہیں جن کی شخصیت ایک ناقابلِ مثال ہے۔ ان کا تجربہ ہمارے لیے یقیناً ایک مشعلِ راہ ہے۔ ان کا زندگی کے تقریباً ہر پہلو میں ایک مقام رہا ہے، چاہے وہ Judiciary میں ہو، چاہے وہ politics میں ہو، ہر پہلو میں وہ یقیناً ایک مکمل شخصیت تھے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس نصیب فرمائے۔

ساتھ ہی میں فاٹا کی طرف سے ایم کیو ایم کے ایک عظیم لیڈر عمران فاروق صاحب کے قتل کی بھی مذمت کرتا ہوں۔ عمران فاروق صاحب سے ہماری لندن میں چند سال پہلے ملاقات ہوئی تھی اور ان کی شخصیت کا اثر ہم آج بھی اپنے دل میں لیے ہوئے ہیں۔ یقیناً وہ ایک محب وطن لیڈر تھے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس نصیب فرمائیں۔ ان کی تنظیم کے لیے یہ ایک بہت بڑا صدمہ ہے، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس صدمے کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

جناب چیئرمین: شکریہ۔ رضاربانی صاحب۔

سینیٹر میاں رضاربانی: جناب چیئرمین! آپ کا شکریہ۔ جہاں تک تھیم صاحب کا تعلق ہے، جیسے تمام دوستوں نے ان کے بارے میں الفاظ اور کلمات کھے ہیں، میں بھی اپنی آواز ان کے ساتھ شامل کرنا چاہتا ہوں۔ تھیم صاحب کے ساتھ میری وابستگی کافی عرصہ تک رہی۔ شاید بہت کم لوگوں کو اس بات کا علم ہو کہ جب محترمہ کی دوسری حکومت تھی اور اس وقت میں Minister of State for Law تھا اور judicial crisis چل رہا تھا تو تھیم صاحب نے بھی اس وقت ایک کلیدی کردار ادا کرنے کی کوشش کی کہ Executive اور Judiciary کے درمیان جو مختلف misunderstandings ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے دور کیا جائے۔ اس کے علاوہ ان کے ساتھ میری وابستگی، سینیٹ کے فلور پر اور دو committees کے حوالے سے بھی رہی۔ ایک تو National Parliamentary Committee on Constitutional Reforms اور دوسری Security کی جو پارلیمنٹ کی کمیٹی ہے اس کے ذریعے سے۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ شاید ہی کوئی ایسی meeting ہو جس میں وہ غیر حاضر رہے ہوں۔ ان کا ایک بڑا اہم contribution ہے، خاص طور پر Constitutional Reforms Committee میں اور جو report شائع ہوئی ہے، اس میں ان کا ایک الگ سے Judiciary کے اوپر note بھی شامل ہے۔

میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے لواحقین کو اس tremendous loss کو bear کرنے کا حوصلہ دے۔

آخر میں، میں عمران فاروق کے لندن میں ہونے والے قتل کی بھی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ شکریہ۔

جناب چیئرمین: شکریہ۔ جی حافظ رشید صاحب۔

سینیٹر حافظ رشید احمد: شکریہ جناب چیئرمین! جناب جسٹس عبدالرزاق اے تھیم صاحب اس وقت ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ وہ ایک اچھے انسان تھے۔ وہ حج رہے ہیں، سینیٹر بھی رہے اور وزیر بھی رہے، وہ کافی اچھی posts پر کام کر چکے تھے اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان میں کچھ کمالات تھے۔ اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ وہ کمال شخص تھے، باکردار اور شریف النفس تھے۔ میرے پاس ان کے لیے وہ الفاظ نہیں ہیں کہ جن میں ان کو یاد کروں۔ میرے دوستوں نے جس انداز سے ان کو یاد کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں ان کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ جناب چیئرمین! میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جسٹس عبدالرزاق اے تھیم صاحب کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہم ان کے پسماندگان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسٹس تھیم صاحب کی مغفرت کرے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔

جناب چیئرمین! اس کے علاوہ میں FATA کے عوام، وہاں کے parliamentarians اور سینیٹرز کی طرف سے ایم کیو ایم کے رہنما ڈاکٹر عمران فاروق صاحب کی شہادت پر دکھ کا اظہار کرتا ہوں۔ ان کی شہادت واقعی ایک بڑا المیہ ہے۔ جناب چیئرمین! میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ایم کیو ایم کے لیے المیہ نہیں ہے، یہ اکیلے ان کا غم نہیں ہے بلکہ یہ پورے ملک کا غم ہے اور تمام parliamentarians کے لیے غم ہے۔ یہ اس وجہ سے بھی دکھ کی بات ہے کہ ملک سے باہر لندن میں ان کی شہادت ہوئی ہے، اس سے ساری دنیا میں ہماری بدنامی ہوئی ہے۔ میں یہی دعا کرتا ہوں کہ ڈاکٹر عمران فاروق صاحب، جسٹس عبدالرزاق اے تھیم صاحب اور جو ہمارے دوسرے ساتھی شہید ہوئے ہیں یا وفات پا گئے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ عطا فرمائے۔

جناب چیئرمین: شکریہ۔ وسیم سجاد صاحب اذان کا وقت ہونے والا ہے، speeches کو windup کر لیں تاکہ دعا کر لی جائے۔

سینیٹر وسیم سجاد: جی دعا کروالیں۔

سینیٹر سید نیر حسین بخاری: جناب چیئرمین! ہم جسٹس تھیم صاحب اور ڈاکٹر عمران فاروق صاحب کے لیے دعا فرمانے لگے ہیں، گلگت بلتستان کی گورنر بھی وفات پا گئی ہیں ان کے لیے بھی دعا کی جائے۔

جناب چیئرمین: جی مولانا حیدری صاحب آپ دعا کروائیں۔

Fateha

(اس موقع پر سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری نے دعائے مغفرت کروائی)

جناب چیئرمین: جی وسیم سجاد صاحب۔

سینیٹر وسیم سجاد: جناب چیئرمین! گو آج House adjourn ہو رہا ہے لیکن ایک بہت اہم مسئلہ ہے اور اگر آج ہی اسے ایک قرارداد کی صورت میں pass کر لیا جائے اور یہ بھی ایک مشترکہ قرارداد ہے۔ یہ قرارداد اس وقت کشمیر میں جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے اور وہاں پر ہندوستان کی security forces جو ظلم کر رہی ہیں اس بارے میں ہے۔ اس میں Leader of the House اور دوسرے تمام دوستوں کی بھی شراکت ہے۔

Resolution: The Brutalities in Indian Occupied Kashmir.

“This House condemns the brutalities and atrocities committed by the security forces in Indian occupied Kashmir, which has resulted in the martyrdom of more than a hundred Kashmiri youth, men, women and children in recent days. This House calls upon the Government of Pakistan to raise the issue of violation of basic human rights in Indian occupied Kashmir in all international fora including the United Nations and urges the international community to take note of the brutalities in Indian occupied Kashmir and prevail upon India to stop its repression forthwith. This House

further calls upon the Government of Pakistan to continue its support for the right of self-determination of the people of Kashmir as well as diplomatic and moral support for their freedom struggle.”

جناب چیئرمین: جی بخاری صاحب۔

سینیٹر سید نیر حسین بخاری: جناب چیئرمین! Leader of the Opposition  
نے جو Resolution پیش کی ہے، certainly the treasury benches support this،  
brutalities and atrocities Indian security Resolution. کشمیر کے معاملے میں جو  
forces کی جانب سے commit کی جارہی ہیں، ان کو condemn بھی کیا جاتا ہے اور ہمارا  
international community and international human rights organizations  
سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ اس بات کو مد نظر رکھیں کہ اس خطے میں امن کے لیے Kashmir issue کا  
resolve ہونا بہت ضروری ہے۔ پچھلے تریسٹھ سالوں سے جو ظلم و بربریت ہو رہی ہے، پاکستان اور  
پاکستان کے عوام نے اس پر ہمیشہ اخلاقی طور پر کشمیری بھائیوں کو support کیا ہے۔  
(اس موقع پر ایوان میں اذان مغرب سنائی دی)

Mr. Chairman: I put the Resolution to the House.

*(The motion was carried.)*

Mr. Chairman: This Resolution stands adopted unanimously. The House stands adjourned to meet again on tomorrow at 10:30 A.M.

-----  
*(The House was then adjourned to meet again on Tuesday, the 21<sup>st</sup>  
September, 2010 at 10:30 A.M.)*  
-----